

us through these trails, he also provides the means to bear such tremendous losses. May we extend our deepest sympathies to your family on this enormous loss. We share your grief in this hour of trail.

جناب میر ظفر اللہ خان جمالی، وزیر اعظم پاکستان:

I am deeply grieved to learn about the sad demise of your esteemed wife. Innalillahi wainna iliahai Rajeeoon. May Allah rest the departed soul in eternal peace and give you and other family members the strenght to bear this irreparable loss. Please accept my sincerest sympathies on this sad occasion.

جناب میاں محمد سومر وچیرمین سینٹ آف پاکستان:

آپ کی اہلیہ کی وفات پر مجھے گہرا صدمہ اور افسوس ہے، غم کے اس موقع پر میری طرف سے دلی تعزیت قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو دائمی سکون اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے (امین) اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔

جناب چوہدری امیر حسین، سپیکر قومی اسمبلی:

Kindly accept my profound condolence on the sad demise of your wife. May almighty Allah rest the departed soul in eternal peace and Grant you and other members of the bereaved family strength and fortitude bear the loss. Ameen.

جناب محمد نواز شریف، جدہ سعودی عرب۔ سابق وزیر اعظم پاکستان:

آپ کی شریک حیات کے انتقال کی خبر سن کر بے حد دکھ اور رنج ہوا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ (امین) قدرت کا نظام ہے، فنا ہر چیز کو ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے۔ عبدیت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے احکام اور اس کی مشیت کے سامنے سراپا عاجز و نیاز بن جائیں۔ اس کی رضا پر راضی رہ کر اس کا بندہ بننے کا عملی ثبوت دیں۔ مرحومہ کی ابدی جدائی عزیز و اقارب کیلئے رشتہ کے حوالہ سے ناقابل تلافی نقصان اور ناقابل برداشت صدمہ کا باعث ضرور ہے لیکن اس سلسلہ میں ہر کوئی بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقعوں پر صبر و تحمل سے کام لینے والے جدا ہونے والے کیلئے مغفرت اور بلند درجہ کی دعا کی تلقین کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اعلیٰ علیین میں سرفراز مقام عطا فرمائے اور سب پسماندگان کو صبر و تحمل کے ساتھ یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ و ہمت دے۔ (امین) اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو (امین)

محترمہ بے نظیر بھٹو، عرب امارات۔ سابق وزیر اعظم پاکستان:

مجھے اور آصف علی زرداری کو آپ کی اہلیہ کی وفات پر دلی افسوس ہوا۔ مرحومہ کی وفات بڑا سانحہ ہے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری طرف سے دلی تعزیت قبول فرمائیں، اور خاندان کے باقی لوگوں کو بھی حوصلہ دیں۔ خدا ان کو جنت اور دائمی سکون عطا فرمائے اور آپ کو اور خاندان کے تمام افراد کو اس پورے نہ ہونے والے نقصان کو برداشت کرنے کی توفیق دے۔

جنرل عمران اللہ خان، سابق گورنر بلوچستان:

آپ کی اہلیہ کی وفات کا سن کر بے حد افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائیں اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ (امین)۔ فی الحال میں ڈاکٹر کے احکامات کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا، جوں ہی طبیعت ٹھیک ہو جائیگی تو دعا کیلئے حاضر ہو جاؤں گا۔
چیف جسٹس (ر) ارشاد حسن خان، چیف الیکشن کمشنر

Kindly accept my heartfelt condolence on the sad demise of your wife. I share your grief. Almighty Allah may rest her soul in peace and grant you stunt to bear this irreparable loss.

خلیل الرحمن، ڈپٹی چیئرمین سینٹ آف پاکستان:

Profoundly shocked and grieved to hear the sad demise of your wife. Please accept my heartfelt condolence. May Allah rest the deep soul in eternal peace and give you and other members of family courage to bear this irreparable loss with fortitude.

علی عواد العسیری، سفیر سعودی عرب۔ اسلام آباد:

I am deeply grieved to hear about the sad demise of your wife. I would like to extend to you and the members of your family my heartfelt sympathies and profound condolences. I pray Almighty Allah to grant the departed soul eternal paradise and to give you and the bereaved family the courage to bear this great loss.

محمد ابراہیم طاہریان، سفیر اسلامی جمہوریہ ایران۔ اسلام آباد:

میں دل کی گہرائیوں سے جناب عالی اور محترم خاندان کو پیش آنے والے صدمے کی تعزیت پیش کرتا ہوں

انشاء اللہ خداوند متعال ان کیلئے مغفرت اور پسماندگان کے لئے صبر جمیل عطا فرمائے گا۔
احمد اے رزاق السلمان، سفیر فلسطین، اسلام آباد:

Dear brother, with full faith in the will of Almighty God I am very sad in deed to read the news of the sad demise of your wife, whose blessed soul left to settle beside Almighty after a life full of good deeds and obedience of God I would like to extend to you and through you to bereaved family my heartfelt condolence. I pray to Almighty Allah to bestow the departed soul peace and to honour her paradise. May God enable all of us and members of her family to be patient on this huge loss we belong to God and to Him we shall return.

جنرل حمید گل، سابق سربراہ آئی ایس آئی۔ روالپنڈی:

Please accept my heartfelt condolences and deep sorrow on the sad demise of your wife. May Allah rest her soul in eternal peace and give you and the other members of family the fortitude to bear this loss with equanimity.

جنرل اسلم بیگ، سابق چیف آف سٹاف افواج پاکستان:

آپ کی شریک حیات کی ناگہانی موت کا سن کر دلی صدمہ ہوا۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور آپ سمیت تمام لواحقین کو اس صدمہ کے برداشت کرنے کی ہمت اور صبر جمیل عطا فرمائے۔ امین

ڈاکٹر اسرار احمد، انجمن تنظیم اسلامی:

اخبار کے ذریعے آپ کی اہلیہ کی وفات کا علم ہوا۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو اس صدمہ پر صبر جمیل سے نوازے۔ ہماری طرف سے تعزیت قبول فرمائیے۔ عزیزم حامد الحق کو میری جانب سے خصوصی تعزیت کر دیجئے گا کہ ان کے سر سے سایہ رحمت اٹھ گیا۔ بہر کیف اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ ہم سب کو جلد یا بدیر اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ (امین)

حسن نثار، معروف کالم نویس:

آپ کی اہلیہ محترمہ کے انتقال کی خبر اخبارات میں پڑھی میں آپ کے غم میں برابر شریک ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک محترمہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ (امین)

مہتاب خان، چیف ایڈیٹر روزنامہ ”اوصاف“:

آپ کی اہلیہ کی ناگہانی وفات پر مجھے دلی صدمہ ہوا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین

محمد اسحاق ڈار سینئر:

I have learned about the sad demise of your wife. Please accept my heartfelt condolences on this sad occasion. I Pray to Almighty Allah to give you and your family the strenght to bear this irreparable loss and keep the departed soul in eternal peace... Ameen.

علامہ ساجد علی نقوی، ملت جعفریہ پاکستان، اسلام آباد:

آپ کی اہلیہ محترمہ کے انتقال پر ملال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے دلی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ بلاشبہ یہ سانحہ ناقابل تلافی نقصان کا سبب ہے، لیکن رضائے خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا لازم و ناگزیر ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند کریم مرحومہ کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ سمیت دیگر تمام سوگواروں کو صبر و حوصلہ عطا فرمائے۔

شہزادہ سعید الرشید محمود عباسی، بہاولپور۔ سابق وفاقی وزیر:

اخبارات میں آپ کی اہلیہ محترمہ کی وفات کی خبر پڑھ کر دلی دکھ ہوا، اللہ جل شانہ آپ کی اہلیہ محترمہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کو اور آپ کے گھر کے دیگر افراد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، میں آپ کے رنج و غم میں شریک ہو کر آپ کی اور آپ کے گھر کے دیگر متاثرہ افراد کی درازی عمر کی دعا کرتا ہوں۔

ڈاکٹر مولانا محمد تقی الدین ندوی، العین یونیورسٹی عرب امارت:

دلی کے ساتھیوں نے یہ خبر دی کہ جناب کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، سن کر بہت ہی رنج و قلق ہوا، بڑھاپے میں اہلیہ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کہ مزاج ستائش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جناب والا اور پورے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومہ کے لئے دین فردوس میں جگہ دے، آمین، ایصال ثواب کیا گیا۔

ڈاکٹر سید سلمان ندوی، ڈربن۔ جنوبی افریقہ

”الحق“ سے جناب کی رفیقہ حیات کے حادثہ انتقال کی افسوسناک خبر ملی۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ کسی عزیز قریب کا حادثہ انتقال یوں بھی تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن رفیقہ حیات سے ابدی محرومی عمر کے کسی بھی حصہ میں تکلیف دہ ہے۔ لیکن عمر کے اس حصہ میں یہ ابدی جدائی کا ریشہ کبریٰ ہے اور اس کا مداوا مشکل ہوتا ہے۔ سعید اولاد کی موجودگی اور

خدمت اپنی جگہ مگر زندگی کے اچھے برے کی ساتھی ابدی جدائی جو زندگی میں خلاء تنہائی پیدا کرتی ہے اس کا احساس وہی کر سکتا ہے جو اس منزل سے گزرا ہو۔ میں خود اس منزل سے ۱۹۹۶ء میں گزر چکا ہوں اس لئے مجھے آپ کے زخم کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحومہ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیں اور آپ کو حوصلہ عطا فرمائیں۔

بظاہر رونقوں میں بزم آرائی میں جیتے ہیں حقیقت ہے کہ ہم تنہا ہیں تنہائی میں جیتے ہیں

الحق میں امریکن TV کو آپ کا دیا ہوا مکالمہ بہت ہی چشم کشا تھا۔ کوئی لاکھ انکار کر لے اور خاک ڈالے مگر حقیقت تو حقیقت ہی ہے۔ کب تک اس سے اعراض کیا جاسکے گا۔ مورد الزام دشمن نہیں ہم خود ہیں۔

مولانا عتیق الرحمان سنہلی بنام حافظ راشد الحق مدیر الحق۔ لندن

السلام علیکم ورحمۃ اللہ کل ایک طویل عرصہ کے بعد الحق (بابت جنوری فروری ۲۰۰۳ء) آیا تو اس میں آپ کی والدہ ماجدہ کے حادثہ رحلت کا پڑھ کر رنج ہوا۔ اللہ بال بال مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صدمہ کے اجر کیساتھ صبر و قرار سے نوازے۔ آپ کا نوحہ غم پڑھ کر تو غیروں کا بھی دل متاثر ہو جانا چاہئے چہ جائے کہ ہم جیسے جو اس گھر کے ممنون احسان ہیں۔ افسوس بڑی دوری حائل ہے ورنہ موقع تو ذاتی حاضری کا تھا۔ اور کچھ زیادہ ہی افسوس یہ خیال کر کے ہو رہا ہے کہ میں گزشتہ تین ہفتے ہندوستان رہ کر آیا ہوں، یعنی تھوڑے ہی سے فاصلہ پر، اور بجد خواہش بھی تھی کہ اس موقع پر پاکستان کے لئے بھی دو ہفتے نکال سکوں مگر میرے گھر کے حالات میں اسکی گنجائش نہ نکل سکی۔ میرے اہلیہ کی صحت کے لحاظ سے یہ تین ہفتے بھی جو ہندوستان میں گزارے کچھ زیادہ ہی تھے۔ اور اسیلئے کچھ وقت بڑھانے کے شدید تقاضوں کے باوجود میں ایک دن بھی نہ بڑھا سکا۔ فروری کو گیا تھا ۲ مارچ کو واپس آ گیا۔ حالانکہ اس سے قبل کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں تین چار مہینہ سے کم میں لوٹ آیا ہوں۔ بہر حال ایک بار پھر دعا ہے کہ اللہ مرحومہ محترمہ کو مغفرت سے اور آپ پسماندگان کو اجر و قرار سے نوازے۔ میرا جی چاہتا تھا ٹیلی فون کروں مگر میری سماعت اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ اکثر بات سننے میں دقت ہو جاتی ہے۔ پس آپ کے ای میل ایڈریس پر بھیجتا ہوں اور تجربہ اس کا بھی چونکہ اطمینان بخش نہیں ہے اس لئے الگ ڈاک سے بھی بھیج رہا ہوں۔ جنوری کے الفرقان کیلئے ایک مضمون لکھا تھا تو ساتھ ہی ساتھ آپ کے ای میل پر بھی روانہ کیا۔ ایسا لگتا ہے سابق ۲ کی طرح وہ بھی شاید نہیں پہنچا۔ والد ماجد کی خدمت میں سلام مسنون۔ تعزیت کے گو وہ بھی آپ سے کم مستحق نہیں، بلکہ درجہ میں اول آتے ہیں، مگر ضرورت مند آپ یقیناً زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر آپ کے سر پر رکھے۔

والسلام

(مولانا) عتیق الرحمان سنہلی، مدیر الفرقان لکھنؤ (حال لندن)

پروفیسر خورشید احمد سینئر: آپ کی اہلیہ محترمہ کے انتقال کی خبر سے بے حد رنج و افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور بشری لغزشوں سے صرف نظر کرے۔ آپ کو صبر جمیل سے

نوازے اور گھر کے تمام افراد کو اس غم کو صبر و ثبات سے برداشت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ امین۔ میں تعزیت کیلئے حاضر ہونا چاہتا تھا مگر طبیعت کی خرابی اور جوڑوں کی تکلیف کے باعث لمبے سفر سے اجتناب کر رہا ہوں۔ تار دفتر سے بھیجوا یا تھا جس میں کچھ غلطی ہو گئی جس کے لئے معذرت خواہ ہوں۔ سینٹ میں دعائے مغفرت میں شرکت کی اور ایم ایم اے کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی مرحومہ کے لئے دعائے مغفرت میں شریک ہوا۔ میری طرف سے دلی تعزیت قبول فرمائیں۔ بلاشبہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم سب کو اپنے مالک کی طرف جانا ہے کوئی پہلے اور کوئی بعد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آخری لمحہ تک اپنے دین پر قائم رکھے۔

سردار محمد یعقوب، ڈپٹی اسپیکر، نیشنل اسمبلی آف پاکستان: Kindly accept my profound condolence on the sad demise of your wife. I was shocked and grimed to hear this sad news. This loss is irreparable for your facing. I pray almighty shower his blessings on the departed soul.

سردار شوکت حسین مزاری، ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی: Deeply shocked to hear about the sad demise of your wife. Pray her soul may rest in eternal peace. My family join you in this hours of grief and pray to the almighty Allah to give you and the bereaved family the courage to bear this irreparable loss. Ameen

محمد علی خان ہوتی، مردان۔ سابق وفاقی وزیر: Grieved to hear the sad news of your wife death. May Allah bless her soul and give strength to bear this irreparable loss. قاضی عبدالکریم۔ مدرسہ عربیہ نجم المدارس (رجسٹرڈ) کلاچی، ضلع ڈی آئی خان:

اہلیہ محترمہ غفر لہا ورحمہا رحمتہ واسعہ کا طویل علالت کے عظیم درجات لے کر رب کریم کے پاس پہنچنے کی اطلاع وقت پر مل گئی تھی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ بال بال ان کی مغفرت فرمائیں اور پسماندگان بالخصوص ان کی اولاد کرام اور اہتمام عزیز کو صبر جمیل پر اجر جزیل کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال صالحہ اور دعوات مستجابہ سے ان کے درجات عالیہ کو بلند سے بلند تر بنانے کی توفیق سے نوازیں۔ فانی ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاعمال الصالحہ والدعوات والصلوات تصل الیہم مثال الجبال۔ نجم المدارس میں ختمہائے قرآن مجید تلاوت سورۃ یسین شریف اور متعدد اجتماعات میں کمرسہ کرر دعوات سے ایصال ثواب کی کوشش کی گئی۔ القبول من اللہ حافظ عبدالغفار روہڑی نائب امیر جماعت اہلحدیث پاکستان: مرحومہ آپ کی تحریک میں برابر کی شریک رہیں ان کی وفات سے آپ اب ایک اچھے اور معاون ساتھی سے محروم ہو گئے ہیں۔

سید منور حسن، قیم جماعت اسلامی پاکستان: دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے تمام نیکیوں اور حسنات کو

قبول فرمائے، خاص اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں تبدیل فرمادے۔ امین۔
 میجر جنرل (ر) سردار محمد انور خان، صدر آزاد کشمیر: مجھے آپ کی اہلیہ محترمہ کی وفات پر نہایت دکھ اور افسوس
 ہوا ہے۔ انشاء اللہ وانا الیہ راجعون۔۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام

عنایت فرمائے، آپ کو اور دیگر لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے (امین)
 عبدالرشید الترابی، امیر الجماعۃ الاسلامیہ آزاد جموں و کشمیر: اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرماتے ہوئے
 انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ (امین)

عبداللہ ڈی العمری، نائب سفیر سعودی عرب: "To God we belong and to him shall we
 return." I was deeply grieved to hear about the sad demise of your wife. Though
 words cannot heal the pain and sorrow but Allah Subhana hu wa ta'llah grants us
 the perseverance to go through this life and our loved ones, when they leave this
 world always remain in our hearts. I extend heartfelt condolences on my
 personal behalf.

مولانا وکیل احمد شیروانی، مدیر ماہنامہ الصیافۃ السین، لاہور: گزارش آنکھ آج کے اخبارات میں ایک افسوسناک
 خبر پڑھی۔ اہلیہ محترمہ اس دار فانی سے دار بقاء کو رحلت فرما گئیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون، خبر پڑھ کر بے حد افسوس ہوا۔ دعا
 ہے کہ اللہ جل شانہ مرحومہ کی مغفرت کاملہ فرما کر ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں اور انکے اعمال صالحہ و دینی
 خدمات کو ان کیلئے صدقہ جاریہ بنائیں اور آپ حضرات کو خصوصاً جناب کو اور صاحبزادگان وغیرہم کو صبر جمیل عطا
 فرمائیں (امین ثم آمین)

لیاقت بلوچ، جماعت اسلامی پنجاب: مرحومہ کی جدائی آپ کیلئے شدید صدمے کا باعث ہے۔ ہم اس غم اور
 صدمے پر آپ سے دلی تعزیت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کیلئے صبر کی دعا کرتے ہیں۔

بہرام ڈی آواری کراچی، سابق وفاقی وزیر: My wife Goshpi, my sons Dinshaw and Xerxes,
 my entire family and I were deeply grieved to hear of the sad demise of your
 beloved wife. Please accept our heartfelt condolence. This is indeed an
 irreparable loss and one that is difficult to accept and bear but with time and
 prayers the deep grief you and the family are feeling at present will slowly be
 replaced with the wonderful memories of the happy times you all spent together.

May her soul rest in eternal peace and may God in his infinite mercy give you and
he rest of the family, the strength and courage to bear this irreparable loss.

ایس ایچ ہاشمی، نیجنگ ڈائریکٹر اور نیٹ ایڈورٹائزنگ کراچی: اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ
علیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔

I have been deeply aggrieved to learn about the sad demise of your wife. May her soul rest in eternal peace

غوث بخش خان مہر، وزیر ریلوے، اسلام آباد
I am deeply grieved to know the sad demise of your wife. May Allah rest her soul in eternal peace

صاحبزادہ عارف سلمان روپڑی، جماعت اہلحدیث: میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بشری لغزشوں سے
درگزر فرماتے ہوئے ان کی حسنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر انہیں جنت الفردوس میں منتقل فرمائے۔

محمد اسحاق بھٹی، مدیر الاعتماد و ثقافت لاہور: دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا
فرمائے اور آپ کو اور دیگر متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق سے نوازے۔ امین

لیفٹیننٹ جنرل (ر) جہاں داد خان، پریذیڈنٹ الشفاء ٹرسٹ اسلام آباد: Please accept my heartfelt
condolences on sad demise of your wife. May God bless her soul.

اسد اللہ بھٹو، ایم این اے۔ صدر متحدہ مجلس عمل صوبہ سندھ: آج آپ کی اہلیہ محترمہ کی وفات کی خبر سنی بہت افسوس
ہوا۔ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔

اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے (امین)
بریگیڈیئر (ر) اعجاز احمد شاہ، ہوم سیکرٹری پنجاب: رنج و غم کے ان کٹھن لمحات میں، میں آپ کے ساتھ ہوں

اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اہلیہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔

مولانا عبدالملک، شیخ الحدیث مرکز علوم اسلامیہ منصورہ لاہور۔ ممبر قومی اسمبلی: مرحومہ کی جدائی سے جناب اور
مرحومہ کے اصحاب فضائل اور صاحبات مناقبت بیٹوں، بیٹیوں اور اہل خاندان کو جو رنج و غم اور نقصان پہنچا ہے، وہ سب

سوگواروں خصوصاً آج جناب کے لئے بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔
ملک فرید اللہ خان، سابق سینئر وفاقی وزیر: ٹیلی ویژن کی خبروں سے معلوم ہوا کہ جناب کی رفیقہ حیات بقضائے

الہی انتقال فرما گئی ہیں۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔ خداوند کریم مرحومہ کو جو رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔

مولانا سعید اللہ جان، مہتمم مدرسہ اعجاز القرآن (للبنات): میں دوران حج مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں

بیٹھا تھا کہ مجھے اطلاع مل گئی کہ حضرت محترم کی زوجہ محترمہ مرحومہ وفات پا گئی ہیں تو میں نے فوراً کعبہ مبارک کو دیکھتے دیکھتے دعائے مغفرت کے لئے ہاتھ اٹھائے اور آنسو بہا کر رب العزت سے مغفرت نامہ درجات عالیہ کے لئے دعا کی۔ چونکہ میری گھر والی بھی میرے ساتھ تھی اس نے بھی محترمہ کے لئے خصوصی دعا کی۔

مولانا محمد زرولی خان، رئیس احسن العلوم کراچی: جملہ اہل و عیال بشمول آنحضرت مکرّم اور برادرین عزیزان حامد و راشد سلمہما اللہ و حفظہما من جمیع الاعداء والبلیات ورتقہم عالیہ الدرجات اللہ تعالیٰ اس سانحہ پر آپ سب حضرات کو بلکہ پورے ملک و ملت کو جو آپ کی وجہ سے اس سانحہ پر سوگوار ہیں صبر و اجر دے آمین۔

ابوعمار زاهد الراشدی، چیف ایڈیٹر ماہنامہ ”الشریعت“، گوجرانوالہ: اللہ رب العزت مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق ارزانی فرمائیں۔ امین یا رب العالمین۔

مولانا منظور احمد چنیوٹی، سابق رکن صوبائی اسمبلی پنجاب، سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ: رفیقہ حیات کا ساتھ چھوڑ جانا واقعی خاندان کے لئے باقی ماندہ زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرمائیں۔

مولانا عبدالرؤف فاروقی، خطیب جامع مسجد خضراء من آباد لاہور: اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دیں اور جنت الفردوس سے نوازیں۔ آپ سے ان کی طویل رفاقت اور اب وفات کے نتیجہ میں ان کی جدائی اتنے گہرے تعلق کے بعد اس طرح ان کا جدا ہونا یقیناً ایک بڑا غم ہے، اللہ تعالیٰ تمام پسماندگان کو صبر جمیل سے نوازیں۔

It was with a deep sense of sorrow that I learnt وزیر منسٹری آف کامرس of the passing away of your wife. May the departed soul rest in peace.

Deeply shocked to hear about the sad demise of your انیسہ زیب طاہر خلی، سینیٹر beloved wife. Please accept my heartfelt condolence of grief and sorrow.

I was shocked and grieved to hear of this sad مخدوم شاہ محمود قریشی، ممبر قومی اسمبلی۔ ملتان news. I pray almighty Allah to grant courage and fortitude to you and your family and shower his blessing on the departed soul.

I am deeply shocked to hear the news. Accept محمد حنیف عباسی، ایم این اے۔ روالپنڈی my heartfelt condolence on the sad demise of your wife.

Please accept my heartfelt condolence محمود سلیم محمود، سیکرٹری قومی اسمبلی، سیکرٹریٹ اسلام آباد on the sad demise of your wife. Allah may rest her departed soul in eternal peace and grant fortitude to the bear bear this loss. Ameen

I was much shocked to listen that your wife has شرمین عبید امریکہ ٹیلیویشن سی بی ایس

been died recently. Innalillahi wainna Ilihai Rajoon. God bless her, Ameen and give patience to the bereaved family. I will be visiting from New York to Pakistan From 8th Feb: 2004 to 11th Feb: 2004 and Inshaallah, I will see you at Akora Khattak, District Nowshera on 11th Feb 2004 at 1000 hrs.

قاضی فضل اللہ حقانی، امریکہ

حج سے واپسی پر یہاں امریکہ میں ایک دوست نے بتایا کہ پاکستانی ٹی وی پر مولانا صاحب کی اہلیہ کی وفات کی خبر آئی تھی، واقعی دکھ ہوا کہ استاد مکرم کی اہلیہ والدہ کی مانند ہوا کرتی ہے۔ لیکن ایک عالم دین سے اس کے کسی قریبی کی وفات پر کیا تعزیتی کلمات پیش کئے جائیں۔ مرحومہ کے باقیات الصحاحات میں مادر علمی کے طلبہ و مدرسین اور مہمانان کی خدمت اور حق تو یہ ہے کہ آج کے مادر علمی کی ترقی میں مرحومہ کا بھی خاطر خواہ حصہ ہے۔ مزید برآں برادران عزیز حامد الحق اور راشد الحق صاحب کی شکل میں دو فرزند ان کا صدقہ جاریہ ہیں۔

مولانا محمد قاسم قاسمی، مہتمم قاسم العلوم فقیر والی ضلع بہاولنگر

مرحومہ اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ وہ اپنے پیچھے آپ جیسے عظیم شوہر اور مولانا حامد الحق حقانی اور مولانا راشد الحق حقانی جیسی نیک اولاد چھوڑ گئیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور جملہ اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق دے۔

کنیئر عائشہ منور، ممبر قومی اسمبلی، ایم ایم اے

میں اور میرے تمام ساتھی آپ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے صبر اور مرحومہ کے لئے جنت میں بہترین درجات کی دعا کرتے ہیں۔

سعدیہ راشد، پریذیڈنٹ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان:

آپ کی اہلیہ محترمہ کا سانحہ ارتحال ایک ایسا حادثہ ہے جس پر اظہار تعزیت واجب ہے۔ لیکن میرے لئے الفاظ کا انتخاب مشکل ہو رہا ہے۔ شریک حیات کی دائمی جدائی کو برداشت کرنا صرف توفیق الہی سے ہی ممکن ہے ورنہ انسانی قویٰ کے بس کی بات نہیں۔ ایک ایسی ہستی جو شب و روز ہر غم و مسرت میں شریک و سہیم ہو اور جو ہر کیفیت کی ساتھی ہو اس سے محرومی ایسا واقعہ نہیں ہوتا کہ اس پر صبر آسان ہو، لیکن انسان مشیت ایزدی کے سامنے مجبور محض ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جملہ اہل خانہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے

نوازے۔ آمین